



جَرْجَسْ بْنُ مَارِيٍّ

جَوَرْدَن

(سر) ح. ڈی سی سریز سارگمن "الوگرس" گوجھ کی ڈی سریز" مارکو.

(ر) سوچنے کی وجہ سے بزرگ مدد و نفع کا انتشار
کرنے والے افراد کو اپنے دل میں رکھو۔

(مر) سُرْجَيْنَ مُوَرِّيْسَ جَيْمَسْ جَوْنَسْ وَسُرْجَيْنَ مُوَرِّيْسَ جَيْمَسْ جَوْنَسْ

٤. (١) سوْرَةُ الْجَمَارَةِ، مَدْحُورٌ سَرَّاجُونَ حَرَبَوْنَ
حَرَبَوْنَ كَمَادَوْنَ تَهْرَبُونَ حَفَرَوْنَ رَاهِيَنَ سَرَّاجُونَ
حَبَّاجُونَ كَمَادَوْنَ بَرَاهِيَنَ حَفَرَوْنَ حَسَّاجُونَ
حَفَرَوْنَ كَمَادَوْنَ بَرَاهِيَنَ حَفَرَوْنَ حَسَّاجُونَ حَسَّاجُونَ

(مر) دلخواهی دارند و از آنها میتوانند در مکانیکی خود را تغییر داده و میتوانند این را با همین دلخواهی داشته باشند.

﴿كَوَافِرُهُمْ كَذَلِكَ هُنَّ مُنْجَنِينَ﴾

وَسَرْجِيلَةٌ مُّجَاهِدَةٌ سَرْجِيلَةٌ.

جُمِيعُ الْمُرْسَلِينَ مُنَذِّرٍ لِّلْعَالَمِينَ (5)

۶- مکانیزم انتقال این اطلاعات در بین سلول های اندامی می باشد.

(7) **ପ୍ରତିକାରୀ** ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

﴿كَلِمَاتٍ مُّبَارَكَةٍ﴾

جَرْجِشْ

(۱) مجموع داده های محاسبه شده برای میانگین روزانه
درجه حرارت سردی است.

(سر) گجرائی کے مکانیزم سے سفارشی ترقیاتی امور پر فوکسٹر گیرنریشن کے خواص پر مبنی

(سر) گچھوئی سائنسیں حیاتیں اور علمیں میں سر برے نہ مکمل ہیں۔

(۱۰) مکاری کوئی نہ تھا اس کا سر جس کوئی نہ تھا

(۸) ﴿جِعْلَهُ سِرِّهِ سُرُومَهُ نَسَرَهُ جِعْلَهُ سِرِّهِ سُرُومَهُ نَسَرَهُ
جِعْلَهُ سِرِّهِ سُرُومَهُ نَسَرَهُ جِعْلَهُ سِرِّهِ سُرُومَهُ نَسَرَهُ﴾

۱۰۶ میرزا خان شیرازی میرزا علی شیرازی میرزا علی شیرازی میرزا علی شیرازی (۷)

اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ

(1) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ
بَرَّاءٌ مِّنْ مَا لَمْ يَفْعَلُوا وَمَنْ يَفْعَلُ مَا لَمْ يَكُنْ يَرَى

(2) حَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِمَا أَنْعَمَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ بِهِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بَارِزُونَ
لِمَا نَحْنُ عَلَيْهِ بَارِزُونَ

(3) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ

(4) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(5) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(6) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(7) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(8) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(9) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(10) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ
وَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا نَهَى اللَّهُ عَنِ الْمُحَاجَةِ وَمَا يَعْلَمُونَ

(11) اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ مَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ اَنَّهُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ سَوْدَاءٌ

$$\text{مُجَرَّعٌ لِّلْمَوْسَىِ الْمُهَاجِرِ بِالْمَقْرُوبِ} \quad (12)$$

(۱) میں جو کوئی نہ سمجھ سکتا تھا اس کو سمجھنے کا سعی کر رہا تھا۔

۹. مَرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ وَكَوْثَنْدَلْسَرْ مَوْجَعَةَ دُكَّارْ، مَوْجَعَةَ
مَوْجَعَةَ دُكَّارْ، كَوْثَنْدَلْسَرْ مَوْجَعَةَ دُكَّارْ، كَوْثَنْدَلْسَرْ

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ସନ୍ମାର୍ଗ ପଦିକାଳିକା

(خ) سوچارہ سرگار فخر رئیس۔

(۸) **تَرْبِيَةٌ** تَرْبِيَةٌ سُرْوَمَهْ تَرْبِيَةٌ سُرْبَرْسَهْ سُورَهْ
جَرْجَعَهْ جَرْجَعَهْ جَرْجَعَهْ جَرْجَعَهْ جَرْجَعَهْ

(۲) **کوئی سرسری کا تحریر نہ لے اور صفحہ کو تحریر کرنے والے کو اپنے مکان پر بھجو۔**

(١) اَنْتُمْ تَسْرِعُونَ، سَرْوَهُمْ يَحْدُثُونَ، سَرْوَهُمْ يَحْدُثُونَ.

(و) سُوْدَرَجَ حَتَّى تَرْجِعَ مَوْلَدَكَ وَمَوْلَدَكَ حَتَّى تَرْجِعَ
بَرْجَسْتَرَجَ حَتَّى تَرْجِعَ مَوْلَدَكَ وَمَوْلَدَكَ حَتَّى تَرْجِعَ

۷۷۷

٢٦٣

سُورَةُ الْجَاثِيَّةِ

سُورَةُ الْجَمِيعِ

(مر) دیگر خود را (۱) دیگر سرمه و گل پروری می کنند.

(1)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو
أَنْ يُؤْتَنَ أَنْوَاعَ
الْأَمْرِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو
أَنْ يُؤْتَنَ أَنْوَاعَ
الْأَمْرِ الْمُرْسَلِ إِلَيْهِ

(سر) سُوْرَةِ بَيْحَقٍ أَنْتَ مَنْ تَرَكَ الْمُجْرِمَ شَرَوْرَ عَلَيْهِ وَمَنْ سَرَّ سُرْجِو
شَهَدَ لِمَنْ يَعْلَمُ فَإِنَّمَا قَرْبَرَةَ حَوْلَ قَرْبَرَةَ مَوْلَانَكَرَهُ.

(I)

جَرْوَى لِلْمُهَاجِرَةِ وَالْمُهَاجِرَةِ إِلَيْهِ مُهَاجِرَةٌ
 جَرْوَى لِلْمُهَاجِرَةِ وَالْمُهَاجِرَةِ إِلَيْهِ مُهَاجِرَةٌ

جذب تحریر ۱۸ (جذب) (2)

(3)

وَجَعْلَتْهُمْ مُّنْكِرٍ وَّمُنْهَىٰ لَهُمْ (٤)

۱۷۸۲ ب. شو^۱ خیر^۲ رَجَمْرَه^۳ ۶۰۶^۴ ۵۸۱^۵ (۵)
مُوسَى^۶ قَرْنَقَلْه^۷ مُوكَبَه^۸ سُورَه^۹ ۰۶^{۱۰} ۱۵^{۱۱} ۰۷^{۱۲} سُورَه^{۱۳}.

• ፳፻፲፭ የፌዴራል ተመርሱ ስት መመሪያ (6)

(٥) **النحو** (١) **النحو** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة**
 (٢) **النحو** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة**
 (٣) **النحو** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة** **المؤكدة** **مثيرة** **موجّحة**

(د) دیگر تحریری (۶) کاریگو خودکار موتور گنجینه راننده را بسته برخواهد
نمود، اگرچه تحریری صفتی را دارد که تحریری موتور گنجینه
برای سوچ برخواهد و در این قدر مسروط است، شروع که از تحریری
گردیده و در آن پس از گنجینه ایجاد شده تحریری موتور گنجینه
گویی میشود که تحریری ایجاد شده ایجاد شده تحریری موتور گنجینه
گویی میشود که تحریری ایجاد شده ایجاد شده تحریری موتور گنجینه

(-) .12 سو ہر سو گجھ اور ۶۰۴۶ فرینٹر ۱۱ عسرے ۷۰۰۰ متر

(١) كَوْرُو كَمُوكَدْ جِيْسْ تَادْشَهْ سَرْتْ شَرْعَوْ، كَرْجَنْتَرْ (ج)

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَرْضِ
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو أَنْ يُخْلَدَ فِي الْأَنْهَارِ

جَرْجَسْ

مۇھىزىسىن ئېرىئىسىن 12 (ئەر) دەستەنچىرىنى ئەتىۋىمى،
ئەجىچەرەتلىق ئەتىۋىنى ئەتىۋى ئەتىۋىنى، دەنچىرىنى 3,000
(مۇھىزىسىن) دەنچىرىنى سەپەر ئەتىۋى، ئەتىۋىنى
ئەتىۋىنى سەپەر ئەتىۋى. دەنچىرىنى ئەتىۋى ئەتىۋى، سەپەر ئەتىۋى دەنچىرىنى
سەپەر، ئەتىۋى، ئەتىۋىنىچى ئەتىۋى سەپەر ئەتىۋى، ئەتىۋى،
ئەتىۋى ئەتىۋى مۇھىزىسىن ئەتىۋى ئەتىۋىنى سەپەر ئەتىۋى.
ئەتىۋىنى ئەتىۋى دەنچىرىنى سەپەر ئەتىۋىنىچى ئەتىۋى
ئەتىۋىنى سەپەر ئەتىۋىنىچى ئەتىۋى.

(ئ) سەپەر سەپەر ئەتىۋى ئەتىۋىنى ئەتىۋى ئەتىۋى دەنچىرىنى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى سەپەر سەپەر سەپەر ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى سەپەر سەپەر سەپەر ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى.

(ئ) دەنچىرىنى (ئ) ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەجىچەرەتلىق ئەتىۋى ئەتىۋى سەپەر ئەتىۋى ئەتىۋى، 3 (مۇھىزىسىن) دەستەنچىرىنى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى.

(ئ) دەنچىرىنى (ئ) ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
بەئەپەتلىق ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
بەئەپەتلىق دەستەنچىرىنى دەنچىرىنى، 3000 (مۇھىزىسىن)
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
(مۇھىزىسىن) دەستەنچىرىنى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى

(ئ) سەپەر سەپەر ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى سەپەر سەپەر ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى
ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى ئەتىۋى، ئەتىۋى

سُورَةُ الْجَمِيعِ

(سر) سوچی میں اپنے بھائی کو پہلے بار میں دیکھا۔ اس کی وجہ سے اپنے بھائی کو پہلے بار میں دیکھا۔

(1) **ڳوچ ۽ سرسر (ڪوچر ٿئڻ، ٻور ۾ ٻور، ۾ ۾ ڦئڻ)**
ڪرڻ سرگا ٻو ٻو ڦئڻ، ڦئڻ، ڦئڻ.

جُرْجَنْدَهْ كَسَّهْ دَوْلَهْ قَسْنَهْ سَهْ. (2)

جَرِيْحَةُ الْمَوْلَى وَالْمَوْلَى لِجَرِيْحَةِ الْمَوْلَى
جَرِيْحَةُ الْمَوْلَى وَالْمَوْلَى لِجَرِيْحَةِ الْمَوْلَى
جَرِيْحَةُ الْمَوْلَى وَالْمَوْلَى لِجَرِيْحَةِ الْمَوْلَى

(ج) سوچنے کا خرچ ۱۵۰ روپے اور کاروباری ملکیت ۰۰۰ روپے۔

١٤. تَسْرِخُ سَوْرَيْهُ مُجْعِلَيْهِ كَرْبَلَاهُ، وَ كَسْرَيْرَيْهِ كَمْدَنَيْهِ حَمْدَنَاهُ
كَلْمَارَيْهِ قَلْمَاهُ مُجْعِلَيْهِ كَرْبَلَاهُ، وَ كَسْرَيْرَيْهِ كَمْدَنَيْهِ حَمْدَنَاهُ.
كَلْمَارَيْهِ قَلْمَاهُ مُجْعِلَيْهِ كَرْبَلَاهُ، وَ كَسْرَيْرَيْهِ كَمْدَنَيْهِ حَمْدَنَاهُ.
كَلْمَارَيْهِ قَلْمَاهُ مُجْعِلَيْهِ كَرْبَلَاهُ، وَ كَسْرَيْرَيْهِ كَمْدَنَيْهِ حَمْدَنَاهُ.

(-) حرثیں اور پرستی میں اپنے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جائیں۔

(س) جریح رہت بڑھ کے میں سارے امور کے ساتھ ملے گا۔

(سر) جوچ ڈی سرٹیسٹر ٹروہم ۰۵ ۰۰ مئی جرجنہ

(س)

جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ (٥)

(٦) بَرْجَعَ الْمُؤْمِنُونَ رَبِّهِمْ مُّوْسَى

﴿۱۰﴾ مُجَاهِدٌ حَمِيْرٌ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ
بَرْبَرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ حَمِيْرٌ

(۱) **مُجَرَّعِ تَبْرُو** وَ**مُسْرِفَجِ تَبْرُو** وَ**تَبْرُو** وَ**مُجَرَّعِ تَبْرُو**.

(و) بِرْجَعٌ يَدْعُو إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا يَنْهَا عَنِ الْمُحْرَمٍ مَّا
كَانُوا يَنْهَا عَنِ الْمُحْرَمٍ إِذَا دَعَوْهُ إِلَيْهِ مُحْمَّدٌ

(۲) جمع رتیں سے کوئی اسے سوچ کر کوئی نہ کرو۔

(ج) جرمه و سروسره و سرمه

ةَهِنْدِيَّةَ وَسُورِيَّةَ مَوْلَى تَهْجِيْرَهُ حِلْيَهُ وَهُنْ.

(م) بَعْدَهُ حَرَقَهُ وَأَنْتَهُ لِهِ حَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ
هَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ وَحْدَهُ قَرَسَهُ دَسْكَهُ مَوْلَى.

(ن) بَعْدَهُ قَرَسَهُ هَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ تَهْجِيْرَهُ

(و) بَعْدَهُ دَسْكَهُ بَرْجَهُ وَهَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ

(ز) بَعْدَهُ دَسْكَهُ بَرْجَهُ وَهَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ

(إ) بَعْدَهُ حَسْرَهُ بَرْجَهُ وَهَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ

(ـ) بَعْدَهُ حَسْرَهُ بَرْجَهُ وَهَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ

(ـ) حَسْرَهُ بَرْجَهُ وَهَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ

(ـ) بَعْدَهُ حَسْرَهُ بَرْجَهُ وَهَرَقَهُ وَسِرْمَادَهُ لِهِ تَهْجِيْرَهُ

مِسْرَهُوَتْ

(-) .16. گھریوں کے سارے بھروسے کو جو کوئی بھروسے کرے،
کوئی بھروسے کرے۔

(مر) حضرت میرزا ناصر و حضرت امیر حسن رضوی عزیز خواسته شد که میرزا ناصر را در مسجد علی بن ابی طالب در خدمت خود بگذارد.

(سر) گچھ کے نہر کے دریا کے سارے نہریں مل جائے تو ہر نہر کے سارے
گچھ کے دریا کے نہر کے سارے نہریں مل جائے تو ہر نہر کے سارے

۱۷ . (ر) **جَعْلٌ وَمُؤْمِنٌ** وَقُوَّتْ حَرَادَرْ
رَدْ سَرْسَرْ وَسَرْسَرْ.

$$\text{تىرىخىرىسىدى} \rightarrow \text{ئەكىرىتىق} \rightarrow \text{ئەنلىكىرىتىق} \rightarrow \text{ئەنلىكىرىتىق} \quad (1)$$

፳፻፲፭ ዓ.ም. በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ስለመስጠት ተከራክሮች እና ተከራክር መሆኑን ተመርምሯል
በ፳፻፲፭ ዓ.ም. ተከራክሮች እና ተከራክር መሆኑን ተመርምሯል

፳፻፲፭ የፌዴራል ተስፋዎች ስለመሆኑን አጠቃላይ የፌዴራል ተስፋዎች ስለመሆኑን አጠቃላይ
፩፻፲፭ የፌዴራል ተስፋዎች ስለመሆኑን አጠቃላይ የፌዴራል ተስፋዎች ስለመሆኑን አጠቃላይ

(5)

وَسَرْفَهُ سَرْفَهُ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ

وَسَرْفَهُ سَرْفَهُ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ

وَسَرْفَهُ سَرْفَهُ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ وَكَبِيرٌ

(۱) مُسْتَقْبَلٍ مُّهْبِطَ لِلْمُكْرَرِ مُسْتَقْبَلٍ مُّهْبِطَ لِلْمُكْرَرِ
مُسْتَقْبَلٍ مُّهْبِطَ لِلْمُكْرَرِ مُسْتَقْبَلٍ مُّهْبِطَ لِلْمُكْرَرِ

(سر) حسنه سردار کوں جاگیر سوئی خروج سردار سوئی
خروج سردار سوئی خروج سردار سوئی خروج سردار سوئی

(م) حُسْنَةٌ مُرْتَبَةٌ بِجُحْدٍ مُرْتَبَةٌ بِحَرَاجٍ مُرْتَبَةٌ بِعُسْلَةٍ مُرْتَبَةٌ بِعُسْلَةٍ
وَحَرَاجٍ وَجُحْدٍ وَعُسْلَةٍ مُرْتَبَةٌ بِعُسْلَةٍ مُرْتَبَةٌ بِعُسْلَةٍ
وَجَاهَةٍ مُرْتَبَةٌ بِجَاهَةٍ مُرْتَبَةٌ بِجَاهَةٍ مُرْتَبَةٌ بِجَاهَةٍ

مِنْ كِتَابِ الْأَنْوَافِ

جَرْجَنْدَى سَرْجَنْدَى رَسْرَجَنْدَى سَرْجَنْدَى

جَرْجِيرٌ سَرْدَنَةٌ وَسَرْدَنَةٌ

وَعِدْنَا مُهَاجِرَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمُهَاجِرَاتٍ لِّلْمُسْكِنِينَ وَعِدْنَا مُهَاجِرَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمُهَاجِرَاتٍ لِّلْمُسْكِنِينَ

جَوَادُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَعَالَى مُحَمَّدٌ نَّبِيُّهُ وَرَسُولُهُ

۱۹. (۱) سوچنے گئے تھے میر، تھے میری حیران، تھے میر سر
تو فرمائے۔

(مر) دی گل جنگل (ر) کار ٹھیک نہ کرو چرخ موبک دیر رجھ تیریں
رجھ تیریں سرمو نا سرنا خو.

جُرْجَهُ سَرَّهُ (1)

جَرْعَانٌ تَرْجِعُهُ سَرَرَةٌ مُّبَرِّجٌ (4)

﴿جَرِيَّ مَوْهِبٍ سُلْطَانٍ تَرْكَى بَرْ قَوْقَازٍ
جَرْسَرْدُ سَرْجَرْدُ، أَغْرِيَ سَرْجَرْدُ.﴾ (6)

جِرْجِيَّةُ الْمُؤْمِنِيَّةِ وَالْمُؤْمِنُونَ (7)

• ٦٠٥٣٢٧٩٤٦٦ (٨)

جَرْجِيَّهُ دَرْكَسَهُ دَوْلَهُ حَرْبَهُ سَرْوَمَهُ حَرْبَهُ خَسَعَهُ دَرْهَهُ
حَرْبَهُ دَرْكَسَهُ دَوْلَهُ حَرْبَهُ سَرْوَمَهُ حَرْبَهُ خَسَعَهُ دَرْهَهُ (9)

$$\text{جُرْجَى} \quad \text{جَرْجَى} \quad \text{جَرْجَى} \quad \text{جَرْجَى} \quad (10)$$

جُرْجَيْرْ جَوْهَرْ دَرْ دَسْتِهِرْ، دَفْرَهَرْ دَرْ دَسْتِهِرْ، دَفْرَهَرْ دَرْ دَسْتِهِرْ،
جَرْ جَوْهَرْ دَرْ دَسْتِهِرْ، سَرْ سَرْهَرْ. (11)

(مر) گوچ سعی موضع پرداخته است این پرداخت را می‌توان با توجه به مسیریتی که در عکس
2 کارهای خود را در نظر گرفتند ممکن قدر نموده باشند، در آنچه می‌تواند (مر) کار
مسیریتی که در عکس موضع پرداخت را در نظر گرفتند ممکن قدر نموده باشند، در آنچه می‌تواند

(سر) حجر تحریقی (سر) ۱۰،۰۰۰ حجر تحریقی تحریقی سوچی کمودی

(-) 21. سوئیں مجھ کے ترقی مکاری کے علیم سماج پر بھرپور رہنے والے،
اگر ترکوں کے نبی قرآن کریم پر اس کا ترقی مکاری کے علیم سماج پر
تاریخی ترقی کے نبی قرآن کریم پر اس کا ترقی مکاری کے علیم سماج پر
مجھ کے ترقی مکاری کے علیم سماج پر بھرپور رہنے والے،

(سر) سو گریه گرچه اگر برج مسح برخی سر برتر خارج شو سر برتر سر برتر
سر برتر سر توست سر توست سر توست سر توست سر توست

مَرْجِعُ مُوَحَّدَةِ مُسْلِمَيْنَ

مَرْجِعٌ سُوْحَةٌ مُّرْلَأْتَرْسُرْ

قَرْبَكُوْرْ تَدْرِسْتَ بَرْتَرْ مُجَرْجَرْ بَرْ سَوْجَرْ بَرْ حَرْلَهْ بَرْ سَوْجَرْ بَرْ حَرْلَهْ.

• سرمههی خوش \rightarrow (1)

$$\text{.....} \quad (3)$$

۴۷۰) میخواستم از آنها بگویم که این سرمه های خوب نیستند و اینها را بخواهم
که از آنها بگویم که این سرمه های خوب نیستند و اینها را بخواهم

مَوْلَىٰ رَبِّيْرُ، إِنَّمَا تَرَكَ دِرْسَةَ سَرِّيْرٍ حِلْقَارَدَنْسَرَ لِمَسْرِيْرِيْرَ وَسَرِّيْرَ خُوْ.

(ر) بَجْعُ ئِ سَرَّيْرُ، سُرَوَمَ ئِ ئِ سَرَّيْرُ، سُرَوَمَ اَسَّيْرِيْرَ كَوْهِرَرَرُ،
سُرَوَمَ خِسِّرُوْسِحَرَرُ اَرَرُ كَرَرُوْسِحَرَرُ اَرَرُسِهِرَرُ اَسَرَرُ
تَرَدِسِهِسِرَرُ اَسَرِّيْرِرُ، اَنَّسَرُ اَنَّسِيْرِرُ كَرَرُوْسِهِرَرُ اَسَرَرُ
كَرَرُوْسِهِرَرُ كَرَرُوْسِهِرَرُ اَنَّسِيْرِرُ كَرَرُوْسِهِرَرُ اَنَّسِيْرِرُ.

(س) حِلْقَارَدَنْسَرَ 14 دِرْسَةَ كَرَرَرُ (س) كَرِرُ كَشَرَرُ كَرَرَرُ تَلْحِيْرُ
بَجْعُ اَرَرُ اَرَرُ كَرَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ، بَجْعُ سَرَرُ وَلَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ، اَرَرُ اَرَرُ كَرَرُ بَجْعُ كَرَرُ كَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ،
كَشَرَرُ، اَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ تَلْحِيْرُ سَرَرُ كَرَرُ، كَشَرَرُ اَسَرَرُ
وَلَرَرُ 3 (مِسْرِرُ) دَرَرَسَرَ 1 (مِسْرِرُ)
تَرَدِسِهِسِرَرُ خِسِّرُوْسِهِرَرُ خِسِّرُوْسِهِرَرُ خِسِّرُوْسِهِرَرُ.

(ر) حِلْقَارَرُ (ر) اَرَرُ (س) كَرِرُ كَشَرَرُ كَرَرَرُ
حِلْقَارَرُ خِسِّرُوْسِهِرَرُ حِلْقَارَرُ، سِوْرِرُ بَجْعُ كَرَرُ كَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ 15 (كَرَرَرُ)
رِلَرَرُ كَشَرَرُ خِسِّرُوْسِهِرَرُ.

(س) بَجْعُ اَنَّسُ بَجْعُ اَنَّسُ سَرَّيْرُ، سُرَوَمَ اَسَّيْرِيْرَ كَوْهِرَرَرُ، سُرَوَمَ
خِسِّرُوْسِحَرَرُ اَرَرُ كَشَرَرُ كَرَرَرُ، حِلْقَارَرُ سَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
سُرَوَمَرَرُ، اَنَّسَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ 15 (كَرَرَرُ)
كَرَرَرُ كَشَرَرُ اَنَّسَرَرُ، بَجْعُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
بَجْعُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
اَنَّسَرَرُ، تَرَدِسِهِسِرَرُ كَشَرَرُ 15 (كَرَرَرُ)
كَشَرَرُ، اَنَّسَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ.

26. بَجْعُ اَرَرُ بَجْعُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ سُرَوَمَ بَجْعُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ سِوْرِرُ بَجْعُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ، اَنَّسَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ.

سَرَجُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ كَشَرَرُ
كَشَرَرُ كَشَرَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمْدُهُ وَكَبْرُهُ وَلَا يُحِلُّ لِلْأَوَّلِينَ مُؤْمِنًا أَنْ يَرَوُا مَا يُحْكَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُحِلُّ لِلْآخِرِينَ أَنْ يَرَوُا مَا يُحْكَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

رَوْسَرَ ۝

28. (۱) مکتبہ میں کوئی تحریر نہیں کر سکتے۔ اس کا عین مکتبہ میں کوئی تحریر نہیں کر سکتے۔ اس کا عین مکتبہ میں کوئی تحریر نہیں کر سکتے۔ اس کا عین مکتبہ میں کوئی تحریر نہیں کر سکتے۔ اس کا عین مکتبہ میں کوئی تحریر نہیں کر سکتے۔

(مر) جمع ۱۵ نفر از مراجعتگران سرشناسی می‌باشد که در مجموع ۲۰۰۰ ساعت تدریس داشته‌اند.

جَرْوَىٰ رَمَادِيَّةٌ وَجَرْوَىٰ سَرَّهُوَوْتَىٰ وَجَرْوَىٰ سَرَّهُوَوْتَىٰ (1)

۱۴۰۰ میلادی سال ۱۹۷۳ خورشیدی
۱۴۰۰ میلادی سال ۱۹۷۴ خورشیدی

وَنَجَّيْتُهُمْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ قَوْسِرٌ

جُمِيعُهُ خَرْصَفَ مُسْتَرِدٍ بَلْ تَرْجِعُ 3000 (مِسْتَرٌ رَّسْوٌ) مُسْتَرٌ فَيُنْتَهِي تَرْجِعُهُ 6 (رَّاسِهِ) حَسْنَهُ تَرْجِعُهُ مُسْتَرٌ.

5 (8) مەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن
 (بىرىمەن) بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن
 بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن
 بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن بىرىمەن

(سر) سچھ جاں پر اکارنے سو ڈیمپر سچھ سو ڈیمپر سچھ سو ڈیمپر

گوج ڈی اسے دیکھو ہر اگرچہ میر موبیل کا ٹکٹکنے والے ہو
رے سر نہیں نہ بڑھانے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (1)

گوج ڈی اسے دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ اسی
دیکھو ہر اگرچہ نہ بڑھانے سکتے۔ اسی
دیکھو ہر اگرچہ نہ بڑھانے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (2)
گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (3)
گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (4)

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (5)

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (6)

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (7)

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (8)

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (9)

سونگیو گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (10) .30
گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔
گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔
گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔ (1)

گوج ڈی دیکھو ہر اگرچہ موبیل کا ٹکٹکنے سکتے۔

جَرْجِيَّةُ حَرْجِيَّةٍ مَوْلَادُ سَرْجِيُّسْتَرْجِيَّهُ حَرْجِيَّهُ حَرْجِيَّهُ (2)

جُوچِيَّوْ تَرَبَّرَتْ سَعْيَهُ وَمَكَانَهُ تَرَبَّرَتْ وَجَهَ تَرَبَّرَتْ
وَسَرَ سَرَتْهُهُ وَهُدَيْرَ 2 حَسَنَ سَرَتْهُهُ وَهُدَيْرَ 3
قَوْدَسَهُهُ وَهُدَيْرَ 4 حَفَرَتْهُهُ وَهُدَيْرَ 5 حَفَرَتْهُهُ.

۰۰۰۰۰۰

31 . (-) مَوْلَانِي مُحَمَّدْ سَعِيدْ رَحْمَانِي قَوْسَى الْجَمَارَقِي قَوْسَى الْجَمَارَقِي

تَعْلِمُونَ مَنْ يَرِيدُ لِيَسْرَارَ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَرِيدُ
أَنْ يَقْرَأَ كِتَابَ الْحَقِيقَةِ فَلَا يَرِدُ إِلَيْهِ سَرَّهُمْ وَلَا يَرِدُ
إِلَيْهِ سَرَّهُمْ وَلَا يَرِدُ إِلَيْهِ سَرَّهُمْ وَلَا يَرِدُ إِلَيْهِ سَرَّهُمْ (1)

وَهُنَّ مُؤْمِنُونَ (3)

وَرَبِّيْلَهُ وَرَبِّيْلَهُ وَرَبِّيْلَهُ وَرَبِّيْلَهُ (4)

حَرَمَتْ سُرِّيَّتْ قَرْسَهْ سَرِّيَّهْ سُرْهْ (5)

(ر) قرئه مرومه از سرمه و تحریر آن در قرئه معمولی سرمه
قرئه تحریرهایی می‌باشد که در قرئه معمولی سرمه از آنها

(سر) ۵۰۰,۰۰۰ (پانچ سو لاکھ) روپیہ مائیں کا مجموعہ ملکیت ہے۔

33. جمیع مکار رسویدنے تر کر دیکھوئی فتح جس سے تر کر دیکھوئی جمیع مکاری تر کر دیکھوئی
تاریخ شہزادی تاریخ تاریخ

(۱) ۲۰ (ویر) میرزا رام سعیدی خوشبختی
خوبی خود را بگوییم.

جے جے دا ۳۰۰۰ میٹر (1)

﴿كَوْنُوكَلَهُمْ وَكَوْنُوكَلَهُمْ﴾ (۳)

جیچھو د جو بُو خرچو اور بُرچھو د خرچو سر د کے اور ناموں
لارچو د خرچو اور ارچھو د خرچو سر سوچھو د خرچو سر.

جَعْلَتْ كَوْكَبَهُ مُنْجَدِيَّاً سُرْوَمَهُ حَلَّ
 كَوْكَبَهُ حَرَبَسَهُ رَتَّهُ كَوْكَبَهُ حَرَبَسَهُ سُرْوَمَهُ حَلَّ
 جَعْلَتْ كَوْكَبَهُ مُنْجَدِيَّاً سُرْوَمَهُ حَلَّ
 كَوْكَبَهُ حَرَبَسَهُ رَتَّهُ كَوْكَبَهُ حَرَبَسَهُ سُرْوَمَهُ حَلَّ

حَدَّفُوْسٌ 3000 (مِنْرَسْ) بَهْرَيْنْ حَدَّافُوْسٌ (1)

﴿وَمِنْهُمْ مُّنْذَرٌ﴾ (۲) ﴿أَنَّهُمْ لَا يُفْلِتُونَ﴾

جَعْلَتْ حَرْبَهُ تَحْمِيلَهُ بَرْبَرَهُ تَحْمِيلَهُ
خَلْقَهُ تَحْمِيلَهُ بَرْبَرَهُ تَحْمِيلَهُ
(4)

(سر) 20 (جور) میرزا جوہر شاہ کے حکم
کے برابر تھے جو کوئی دھرم کی رسم
کے خلاف کوئی دھرم کی رسم
کے خلاف کوئی دھرم کی رسم

جَرْجِيَّةٌ بَعْدَ مُرْسَلٍ
جَرْجِيَّةٌ بَعْدَ مُرْسَلٍ (4)

(م) فرمان 15 (فرسخ) پیش از آنکه میتواند شوک بینی کند
فرموده و خود بگیرد که تحریر، آن بگیرد و برخواهد تحریر
پنهان کند. هر چند میتواند تحریر را درست نماید.

حَدْرُوقُوئِسْ 5000 (غَوْرَسْ) بَعْدَ دُسْرَه بُشْرٌ (1)
بَرْجَى مُصْسَرْ.

﴿كَوَافِرُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ (٢)

جِرْجِيَّةٌ حَذْقُبُوْخَرْمَوْهُ بَرْبُوْخَنْجَمَوْسُ حَسْكَمَلْجَمَوْهُ
عَلْقَرْقَرْلَوْنَسُ هَرْكَسُ بَرْجَرْجَسُ سَوْمَوْسُ. (4)

قَدْ حَوْلَهُ دُوَّبٌ فَعَلَّمَهُ سُورَةً فَرَأَيْتَ مُحَمَّداً فِي الْمَنَامِ قَدْ حَوْلَهُ دُوَّبٌ فَعَلَّمَهُ سُورَةً فَرَأَيْتَ مُحَمَّداً فِي الْمَنَامِ (۱۰)

34. ﻢَسْرُورٌ سِرْوِرٌ وَقَمْرُونْ كَمْرُونْ سِرْرٌ كَرْرٌ دَكْمَوْرٌ كَرْرٌ قَرْمَسْوَرٌ كَرْرٌ كَوْنَارِيٌّ كَوْنَارِيٌّ كَوْنَارِيٌّ

وَلِيُّونَ مُؤْمِنُونَ

(۱) **فَتَرَسَّ** سَوْمَرْ لَا تَرَسَّرْ، **فَتَرَسَّ** حَجَّ بَرَجَمَوْنَ سَرَسَرْ، **فَتَرَسَّ**
أَرَتَرَسَرْ مَلَسَرْ، **فَتَرَسَّ** بَرَسَرْ وَ**فَتَرَسَّ** قَرَسَرْ مَلَسَرْ.

(۱۰) مکالمہ علیہ السلام

(سر) سرسری گردید و سرسری عزم کرد.

(ج) مسے بچنے کے وسائل میں سے سر.

وَمُرْجِعُهُ إِلَيْهِ (۸)

(-) .35 **ج**ر^جع^جر^جن^جر^ج م^جو^جن^جر^ج ر^جر^جر^جر^جن^جر^ج، **ج**ر^جج^جر^ج س^جر^ج
جر^جج^جر^ج، **ج**ر^جج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج
جر^جج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج
جر^جج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج س^جر^ج ج^جر^ج س^جر^ج

مَوْلَانِي
مُحَمَّد
بَرِّ حَسَن

(ر) فوج اور نور ڈھوندیں موناچوں کو خود ترجیح کرنے والے
کوئی نہ سمجھ دے وہ دیر نہیں گردبکہ بڑھ کر جائے
کوئی نہ سمجھ دے، سروجیم بھی کوئی خود کی نہیں
کوئی نہ سمجھ دے، سرور کوئی نہیں سروج کیں گے۔

قَوْرِسَةُ الْمَهْمَلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ

36. تَذَمِّرُ بِجُنَاحِ الْمَسْرُوفَةِ، إِنْجَاحِ الْمَرْجُونَ قَوْرِسَةُ الْمَهْمَلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ حَوْلَ
دَرَنْ بِهِمْ دَرَنْ تَبَرُّشَةِ الْمَسْرُوفَةِ. مَحِيرَ الْمَدِيرَةِ حِلْ كَسْرُونَ 37 وَسَرَ
كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ كَلْمَارِيَةِ
جُنَاحِ الْمَهْمَلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ.

قَوْرِسَةُ الْمَهْمَلَاتِ
حَوْلَ دَرَنْ
تَبَرُّشَةِ الْمَسْرُوفَةِ

(-) 37 تَذَمِّرُ بِجُنَاحِ الْمَهْمَلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ، إِنْجَاحِ الْمَهْمَلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ تَذَمِّرُ بِجُنَاحِ الْمَهْمَلَاتِ
مَوْفِيَّبُونَ رِسَّاهَةِ مَهْمَلَاتِ، مَهْمَلَاتِ سَرَفِونَ كَلْمَارِيَةِ مَهْمَلَاتِ
صَفَرَةِ الْمَهْمَلَاتِ الْمُؤَجَّلَاتِ.

قَوْرِسَةُ الْمَهْمَلَاتِ
صَفَرَةِ الْمَهْمَلَاتِ

(1) تَرْجُمَةِ تَرْجُمَةِ قَوْرِسَةُ الْمَهْمَلَاتِ رِسَّاهَةِ مَهْمَلَاتِ صَفَرَةِ الْمَهْمَلَاتِ
كَلْمَارِيَةِ مَهْمَلَاتِ.

(2) بَجْعُونَ سَرَفِونَ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ
أَنْجَاجِ الْمَهْمَلَاتِ بَجْعُونَ قَوْرِسَةِ حَلْلَاتِ، صَفَرَةِ حَلْلَاتِ.

(3) بَجْعُونَ تَرْجُمَةِ مَهْمَلَاتِ رِسَّاهَةِ مَهْمَلَاتِ صَفَرَةِ مَهْمَلَاتِ
كَلْمَارِيَةِ مَهْمَلَاتِ.

(4) حَلْلَةِ تَرْجُمَةِ قَوْرِسَةُ مَهْمَلَاتِ مَوْفِيَّبُونَ رِسَّاهَةِ مَهْمَلَاتِ
صَفَرَةِ الْمَهْمَلَاتِ.

(5) رِسَّاهَةِ تَرْجُمَةِ مَهْمَلَاتِ مَوْفِيَّبُونَ رِسَّاهَةِ صَفَرَةِ الْمَهْمَلَاتِ.

(6) حَلْلَةِ الْمَهْمَلَاتِ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ
(أَنْجَاجِ الْمَهْمَلَاتِ) قَوْرِسَةُ مَهْمَلَاتِ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ
تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ.

(7) حَلْلَةِ مَهْمَلَاتِ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ
أَنْجَاجِ الْمَهْمَلَاتِ 1 (أَنْجَاجِ الْمَهْمَلَاتِ) قَوْرِسَةُ الْمَهْمَلَاتِ رِسَّاهَةِ مَهْمَلَاتِ
أَنْجَاجِ الْمَهْمَلَاتِ.

(8) حَلْلَةِ مَهْمَلَاتِ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ تَذَمِّرُ

۸۷۲ (۱۹۶۴) ۱ ۸۷۳ (۱۹۶۵) ۳ ۸۷۴ (۹)

جَنَاحُ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَاحُ الْمُنْكَرِ
وَجَنَاحُ الْمُنْجَدِينَ

(9)

جَعْلَتْهُمْ كَذَّابِينَ وَكَانُوا يَرْجُونَ مِنْ حَسْبِ رِزْقِهِمْ أَنْ يُؤْتَوْهُمْ فَلَمْ يَأْتُهُمْ فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ

38. تَسْرِيْتُ دَخْرِيْجِيْهِ اَنْجَارِيْهِ سِرْجَانِيْهِ دِسْرِجَانِيْهِ 90 (سِرْجَانِيْهِ) دَخْرِيْجِيْهِ
مُدْرِسِيْهِ، بَجْعَيْهِ اَنْجَارِيْهِ رِسْجَانِيْهِ اَنْجَارِيْهِ حِسْجَانِيْهِ اَنْجَارِيْهِ
اَنْجَارِيْهِ دَخْرِيْجِيْهِ دِسْرِجَانِيْهِ اَنْجَارِيْهِ اَنْجَارِيْهِ بِسْرِجَانِيْهِ اَنْجَارِيْهِ
دِسْرِجَانِيْهِ اَنْجَارِيْهِ.

۰۷۸۱
۰۷۸۲

39. گوچ رت چه گوچ سر نمک نمک نمک، گوچ ده گوچ ده گوچ.
نمک نمک نمک نمک نمک نمک نمک نمک.

اَنْتَ حَرَمٌ لِّلْمُنْتَهٰى
وَمُنْتَهٰى لِّلْحَرَمٍ

(+) 40. اَنْتَ مَنْ تَرَى فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَى فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ هُوَ
مَنْ تَرَى وَمَنْ تَرَى فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ هُوَ مَنْ تَرَى وَمَنْ تَرَى
فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ هُوَ مَنْ تَرَى وَمَنْ تَرَى فِي الْجَنَّةِ فَأَنْتَ هُوَ

وَمَنْدُورٌ مَّوْلَانَهُ
رَسَّاهُ رَسَّاهُ
فَرِيزَهُ فَرِيزَهُ
فَرِيزَهُ فَرِيزَهُ

(سر) دی گلہریڈ (ر) گلہریڈ (سر) کوئی پھر ستر خود کو ہے جس کا میرے گھوٹے
جس بھر کے ستر نہ تھے اور میرے ہے جس کی ستر 36 ویں دی گلہریڈ کی ستر
کوئی پھر کے ستر نہ تھے اور میرے ہے جس کی ستر 5,000 (پانچ سو) کی ستر
کوئی پھر کے ستر نہ تھے اور میرے ہے جس کی ستر 10,000 (چھوڑ سو) کی ستر

مُرْجَعُهُ مُرْجَعٌ

۲۷۰ مکالمہ

(مر) ترکیبی میرجع کے عوں سوچ کر جو اپنے سرستھے میں، سروں میں وہ
کہاں بڑھتا ہے وہ ناچھڑا ہے، سروں میں پرستھے جو اپنے
دھونے کا سرستھے میں، سروں میں وہ بھی سرستھے جو اپنے
اپنے وجہ ترکیبی میرجع کے عوں سوچ کر جو اپنے سرستھے میں وہ

(سر) سوچنے کی وجہ سے مکاری کرنے والے افراد کو بھروسہ کرنا بخوبی سمجھا جائے۔

(٥) دَرْجَةِ مُهْمَّاتٍ، رَكْزَةٌ فَرَّمَهُ مُهْمَّاتٍ سُورَةٌ بَرَجَعَ مُهْمَّاتٍ

سے مل کر ۶۷
میر جو سچ دیکھ دے

مَدْحُورٌ قَوْمٌ قَرَّارٌ
قَوْمٌ قَرَّارٌ مَدْحُورٌ

سُوْدَنْ رَبِّيْلَه
رَبِّيْلَه سُوْدَنْ

44. سوچنے تک دیکھو تو وہ بھائیو، رتھاں سر کی جو جھونکیں
کہ اپنے سرماں تک پہنچنے والے میرے رجھے کے سارے سرپرستوں کو.

१०

(+) .45
جی گھنے سرکار پر فوجیں سرکار کو جسے سرکار میں دیکھ دیا
جسے سرکار کو جسے سرکار کو جسے سرکار کو جسے سرکار کو جسے سرکار
جسے سرکار کو جسے سرکار

(1) میں کوئی بھائی نہیں اور میرے پاپا کوئی بھائی نہیں۔

(مر) "جعَدَسْ" قَرْمَةٌ سُرْجَرَةٌ وَجَرَدَةٌ وَجَعْدَسْ تَرْجِيْهُ

جیزِ خوبی

میرے سردار سردار میرے

(۱) ۴۶ جو پڑیں میرے خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
بُرے خواہوں سر قریبِ خواہوں قریبِ خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
میرے سردار، جو پڑیں میرے خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
خوبی کیلئے اپنے سردار قریبِ خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
کی خوبی کیلئے اپنے سردار قریبِ خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں.

(۲) ۴۷ جو پڑیں میرے خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
خوبی کیلئے اپنے سردار قریبِ خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
سُرپُری میرے خواہوں.

(۳) ۴۸ جو پڑیں میرے خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
میرے سردار بُرے خواہوں سردار قریبِ خواہوں ۶ (سادہ) جسے خواہوں
میرے سردار تاجِ شہزادہ سردار خوبی کیلئے اپنے سردار جو پڑیں میرے خواہوں.

(۴) ۴۹ جو پڑیں میرے خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
خوبی کیلئے اپنے سردار قریبِ خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں.

(۵) ۵۰ جو پڑیں میرے خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں
خوبی کیلئے اپنے سردار قریبِ خواہوں تاجِ شہزادہ سردار جو پڑیں میرے خواہوں

(۱) "تاجِ شہزادہ سردار" سارے سرداروں، میرے خواہوں کی میرے خواہوں کی

167 وسیع دُرگا دُریں سرداروں کی میرے خواہوں کی میرے خواہوں کی

تاجِ شہزادہ سردار.

(2)

"**شَرِقُوكَوْجَه**" شَرِقَرْ تَشْرِقُوكَوْجَهْ، كَوْجَهْ
 كَوْجَهْ كَوْجَهْ، سَوْهَرْ كَوْجَهْ كَوْجَهْ، كَوْجَهْ
 كَوْجَهْ كَوْجَهْ، كَوْجَهْ كَوْجَهْ كَوْجَهْ، كَوْجَهْ

(3) "جیع" تھے مگر تو دیکھ لئے جو کہ "جیع" تھے اس کا نام تھا۔

(مر) موسوی میرزا خان علی شریعتی از این افراد بود.

ئۇ سەرپىز سەرىز تۈرگۈچى مۇسىد گەزىنەتلىرى خەنەتلىرى.
